



سوال

(189) پگڑی پر مسح کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

سر کا مسح کس طرح کیا جائے۔ کیا پگڑی پر بھی مسح جائز ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے پیشانی پر دونوں ہاتھ رکھ کر گدی تک ان کو لے جایا جائے پھر گدی سے پیشانی تک واپس لیا جائے پھر دونوں ہاتھ کی شہادت کی انگلی جو انگوٹھے کے متصل ہے جس کو عربی میں سبابہ یا سباحہ کہتے ہیں۔ دونوں کانوں کے سوراخ میں رکھ کر کان کے اندر پھیرنے کے ساتھ انگوٹھوں کو کانوں کی پشت پر پھیرا جائے۔ اگر صرف پیشانی پر مسح کر کے باقی پگڑی پر کر لیا جائے تو بھی کافی ہے صرف پگڑی پر بھی مسح کافی ہے۔ لیکن پھر پگڑی سر پر رہے اگر اتار دی جائے تو مسح ٹوٹ جائے گا اور وضوئے سرے سے کرنا پڑے گا۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ اہلحدیث

وضو کا بیان، ج 1 ص 275

محدث فتویٰ